

دفتر برائے تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیشن  
جامعہ ملیہ اسلامیہ

16-07-2020

پریس ریلیز

جامعہ ملیہ بارہویں بورڈ امتحانات کے نتائج کا اعلان

سائنس اسٹریم میں وہاب مشرا ، کامرس میں سدرا حسن اور سید محمد ، جبکہ آرٹس اسٹریم میں خالد  
نے ماری بازی  
لڑکیوں نے 98.3 فیصد کے ساتھ 96.6 فیصد پر لڑکوں کو چھوڑا پیچھے -

جامعہ ملیہ اسلامیہ نے کل شام بارہویں بورڈ کے امتحانات ( سائنس ، کامرس اور آرٹس اسٹریمز )  
کے نتائج اعلان کیا۔ یہ نتائج آن لائن دستیاب ہیں ۔

وبائی مرض کووڈ 19 کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے باوجود ، جامعہ اسکولوں کے طلباء کے امکانات کو  
مد نظر رکھتے ہوئے ، دفتر برائے کنٹرولر امتحانات نے نتائج کا اعلان کیا ، جو جامعہ ملیہ اسلامیہ  
کی وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر کی رہنمائی میں شفاف ، موثر اور بر وقت طلباء و طالبات کے  
مفادات میں بہتری اور ہدف کو پورا کرنے کے عزم کی نشاندہی کرتا ہے۔

پروفیسر نجمہ اختر نے کامیاب طلباء کو مبارکباد پیش کی اور ان کے روشن مستقبل کی تمنا کے ساتھ  
امید جتائی کہ یہ طلباء قوم کی تعمیر میں اہم کردار ادا کریں گے جو ان کے اپنے ادارہ کے نیک  
نامی کا ذریعہ ہوگا۔ انہوں نے نتائج کے بروقت اعلان کے لئے دفتر برائے کنٹرولر امتحانات اور ان  
کے عملے کی بھی تعریف کی۔

بتا دیں کہ اس امتحان میں کل 820 طلباء تھے جن میں 371 لڑکیاں اور 449 لڑکے امتحان میں کامیاب  
ہوئے اور بالترتیب 98.3 فیصد اور 96.6 فیصد کے ساتھ کامیاب ہوئے (مجموعی کامیابی کی شرح  
97.8 فیصد رہی)۔

جامعہ گرلز سینئر سیکنڈری اسکول (جے جی ایس ایس) ، جامعہ سینئر سیکنڈری اسکول (جے ایس  
ایس ایس) اور سید عابد حسین سینئر سیکنڈری اسکول (ایس اے ایچ ایس ایس ایس) میں مجموعی طور  
پر 535 طلباء نے 75 فیصد سے زائد نمبر حاصل کیے۔

سائنس اسٹریم میں ، ویبھٹو مشرا (جے ایس ایس) نے 95.6 فیصد کے ساتھ امتیازی نمبر حاصل کیا ،  
وہیں محمد عمیر علی خان (ایس اے ایچ ایس ایس ایس) نے 95.4 فیصد سے کامیابی حاصل کی  
جبکہ 95.2 فیصد کے ساتھ دوسری اور واڈیا علی (جے جی ایس ایس ایس) نے 95 فیصد کے ساتھ  
تیسری پوزیشن حاصل کی۔

کامرس اسٹریم میں ، سدرہ حسن(ایس اے ایچ ایس ایس ایس ) نے 96.6 فیصد کے ساتھ پہلی ، محمد ارتضیٰ عزیز خان (جے ایس ایس ایس ) نے 95.4 فیصد کے ساتھ دوسری اور علینا خان (جے ایس ایس ایس ) نے کامرس میں 94.2 فیصد کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی۔

آرٹس اسٹریم میں ، سید محمد خالد (جے ایس ایس ایس ) نے 98.4 فیصد کے ساتھ پہلی ، ایشا کاظمی (جے جی ایس ایس ایس ) نے 97.6 فیصد کے ساتھ دوسری ، وہیں ندا پرویز (جے جی ایس ایس ایس ) اور عقیفہ قوی (جے ایس ایس ایس ) نے مشترکہ طور پر 95.40 فیصد کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی ۔

کنٹرولر آف امتحانات ڈاکٹر ناظم ایچ جعفری نے فعال ٹیم اور انتھک کاوشوں کے لئے ڈین ، فیکلٹی آف ایجوکیشن کا اس پورے معاملے میں جو کردار رہا اس کی تعریف کی۔ انہوں نے امتحانات کے بروقت انعقاد اور کاپیوں کی جانچ اور موثر تدریس کے نتیجے میں بہتر اور بروقت نتائج کے اعلان کے لیے اسکول کے پرنسپلز اور عملہ کو بھی مبارکباد پیش کیا۔ انہوں نے یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ 16 جولائی 2020 کی شام تک دسویں جماعت کے نتائج کا بھی اعلان ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیا جائے گا ۔

احمد عظیم  
پی ار او -میڈیا کوآرڈینیٹر